

Misconception: Must be "Muslim" or you will go to Hell

غلط فہمی : آپکا مسلمان ہونا ضروری ہے ورنہ آپ جہنم میں جاؤ گے۔

پس منظر : کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنت \ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے ، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے ، تو جیسے ہی وہ ایک دفعہ مر جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

قرآن نے بارہا توحید، جواب دہی کا اعتراف اور متقی ہونے کو کامیابی کا معیار بتایا ہے۔

" بے شک ایمان والے ، نیز یہودیوں، اور نصرانیوں*، اور ستارہ پرستوں*، میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ اندیشہ ہو، اور نہ کچھ غم۔" [2 : 62]

" بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ، اور اسی طرح یہودی ، اور یسوع ناصری*، اور ستارہ پرست ، ان میں سے جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے ، تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔" [5 : 69]

* عام طور پر اس کا ترجمہ " عیسائی " کے طور پر کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا حوالہ یسوع ناصری کے پیروکاروں کے طور پر دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ، یسوع ناصری۔

قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہاں کچھ "اہل کتاب " ہیں (مثال کے طور پر پچھلی الہامی کتابوں کے پیروکار) جو کہ متقی ہیں اور انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا:

" اور اگر کتاب والے ایمان لائے اور پرہیزگاری کرے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ قائم رہتے * توریت اور * انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے ، اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ، ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے ، اور (جیسے کہ) ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔"

[5 : 65 - 66]

* عام طور پر اس کا ترجمہ بالترتیب توریت اور اناجیل کے طور پر کیا جاتا ہے۔

" سب ایک سے نہیں؛ کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں؛ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں (اسے)۔

اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں۔

اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہیں ڈر والے۔"

[3 : 113 - 115]